

# ماسک پہننا ضروری ہے



مرحلہ 4: بحالی برائے الیوائے



**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# فاصلہ رکھیں



مرحلہ 4: بحالی برائے ایوائے (Illinois)



**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# سے زیادہ لوگوں کے اجتماع 50 کی اجازت نہیں



مرحلہ 4 (Illinois): بحالی برائے الیوائے




**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES


# داخلے کے وقت علامات کا معائنہ اور درجہ حرارت کی جانچ درکار ہو گی



مرحلہ 4: (Illinois) بحالی برائے الیوائے



**Illinois**  
State Board of Education





داخلے سے پہلے اپنی صحت  
کے ٹھیک ہونے کی تصدیق  
درکار ہوگی



مرحلہ 4: (Illinois) بحالی برائے الیوائے



**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں



مرحلہ 4 (Illinois) بحالی برائے الیوائے



**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# پر استعمال کے بعد انہیں صاف کریں



مرحلہ 4 (Illinois): بحالی برائے الیوائے



**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# یہ جگہ جراثیم سے پاک کی گنتی ہے



مرحلہ 4: Illinois) بحالی برائے الیوائے



**Illinois**  
State Board of Education





# علامات ظاہر ہوئی ہیں؟ اگر پر رہیں



بخار یا ٹھنڈ لگنا

کھانسی

سانس اکھڑنا یا سانس لینے میں

دشواری

تھکاوٹ

پٹھوں یا جسم میں دردیں

سر درد

سونگھنے یا چھکنے کی حس ختم

ہونا

گلا خراب

ناک بند ہونا یا بہنا

متلی یا قلمے

اسہال

اس فہرست میں تمام ممکنہ علامات شامل نہیں۔ اگر آپ کو بیماری کی کوئی بھی علامات درپیش ہیں، تو براہ کرم گھر پر رہیں۔

مرحلہ 4 (Illinois): بحالی برائے الیوائے



**Illinois**  
State Board of Education

ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# ہیرو بنیں: اپنی اور دوسروں کی حفاظت کریں



ہر وقت ماسک پہنے رکھیں



ایک دوسرے سے 6 فٹ دور رہیں



بار بار ہاتھ دھوئیں



علامات ظاہر ہوئی ہیں؟ گھر پر رہیں

مرحلہ 4: بحالی برائے اینوائے (Illinois)



**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# ایک طرف رخ کریں


6 فٹ



مرحلہ 4: بحالی برائے ایوائے (Illinois)



**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# پیک طرفہ



مرحلہ 4: بحالی برائے اینوائے (Illinois)



**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES



# يک طرفہ



مرحلہ 4: بحالی برائے اینوائے (Illinois)




**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# پیک طرفہ



مرحلہ 4: Illinois) بحالی برائے الیوائے



**Illinois**  
State Board of Education



ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH  
**IDPH**  
PROTECTING HEALTH. IMPROVING LIVES

# پیک طرفہ



مرحلہ 4: (Illinois) بحالی برائے الیوائے



**Illinois**  
State Board of Education

